

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ
رَسُولُ اللَّهِ

اول کلمہ طیب:

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں

First Kalimah Tayyab

Translation: None But ALLAH is Worthy of
Worship MUHAMMAD is His Messenger.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

دوم کلمہ شہادت

ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ **حضرت محمد ﷺ** اس کے بندے اور رسول ہیں

Second Kalimah Shahadah

Translation: I bear testimony that none is worthy of worship but ALLAH, and I testify that MUHAMMAD is the Servant and Messenger of ALLAH



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ
أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

سوم کلمہ تجید: ترجمہ: پاک ہے اللہ تعالیٰ اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کیلئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے جو عالی شان اور عظمت والا ہے۔

Third Kalimah Tamjeed

Translation: Glory be to ALLAH, All praise is for ALLAH, there is no deity but ALLAH, and ALLAH is the greatest, and there is no might and no power expect in ALLAH the Highest the Almighty.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ
يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ أَبَدًا أَبَدًا ذُو الْجَلَالِ
وَالْإِكْرَامِ ط بِيَدِهِ الْخَيْرُ ط وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

چہارم کلمہ توحید: اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کی بادشاہی ہے اور
اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے جس کو موت
نہیں، عظمت اور بزرگی والا ہے اسی کے ہاتھ میں ہے خیر و برکت اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

Fourth Kalimah Touhid Translation:

(There is) none worthy of worship except Allah. He is only one. (There are) no partners for Him. For His in the kingdom. And for Him is the praise. He gives life and causes death. And He is Alive. He is Eternal. Possessor of magesty and reverence. In His hand is the goodness. And He is the goodness. And He is on everything powerful



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّیْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ اَذْنَبْتُهُ عَمَدًا اَوْ خَطَاً سِرًّا وَّ اَوْ
عَلَانِیَةً وَّ اَتُوْبُ اِلَیْهِ مِنَ الذَّنْبِ الَّذِیْ اَعْلَمُ وَمِنْ الذَّنْبِ
الَّذِیْ لَا اَعْلَمُ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوْبِ وَّ سَتَّارُ الْعُیُوْبِ
وَ غَفَّارُ الذُّنُوْبِ وَّ لَا حَوْلَ وَّ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ ط

پنجم کلمہ استغفار: ترجمہ: میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں جو میرا پروردگار ہے، ہر گناہ سے جو میں نے کیا جان بوجھ کر یا
بھول کر رد پر دہ یا کھلم کھلا اور میں توبہ کرتا ہوں اس کے حضور میں اس گناہ سے جو مجھے معلوم ہے اور اس گناہ سے جو مجھے
معلوم نہیں بیشک تو غیوب کا جاننے والا اور عیبوں کو چھپانے والا ہے اور گناہوں کا بخشنے والا ہے اور گناہوں سے بچنے کی
طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو عالی شان اور عظمت والا ہے۔



Translation: Glory be to ALLAH, All praise is for ALLAH, there is no deity but ALLAH, and ALLAH is the greatest, and there is no might and no power expect in ALLAH the Highest the Almighty.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا وَأَنَا
أَعْلَمُ بِهِ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ بِهِ تَبْتُ عَنْهُ وَتَبَّرَاتُ
مِنَ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ وَالْكَذِبِ وَالْغَيْبَةِ وَالْبِدْعَةِ
وَالنَّمِيمَةِ وَالْفَوَاحِشِ وَالْبُهْتَانِ وَالْمَعَاصِي كُلِّهَا
وَأَسَلَمْتُ وَأَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

ششم کلمہ رد کفر: ترجمہ: یا اللہ (پاک) میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ کسی چیز کو تیرا شریک بناؤں اور مجھے اس کا علم ہو اور میں معافی مانگتا ہوں تجھ سے اس (گناہ) سے جس کا مجھے علم نہیں ہے اس سے توبہ کی اور بیزار ہو کر کفر سے اور شرک اور جھوٹ سے اور غیبت سے اور بدعت سے اور چغلی سے اور بے حیائی کے کاموں سے اور تہمت لگانے سے اور باقی ہر قسم کی نافرمانیوں سے اور میں ایمان لایا اور میں کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں حضرت محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں۔

Sixth Kalimah Disgusting of Kufr. Translation:

"O Allah! I seek protection in you from that I should not join my partner with you knowingly. I seek your forgiveness from that which I do not know. I repent from it (ignorance) I free myself from disbelief and joining partners with you and from all sins. I submit to your will I believe & I declare: There is none worthy of worship besides Allah and with Him Muhammad is His Messenger."

